



## سوال

(45) غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک اکبر ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرے خاندان میں تقرب کے حصول کے لئے اولیائے کرام کی قبروں پر بکریوں کے ذبح کرنے کا رواج ہے۔ میں نے انہیں اس سے روکا لیکن اس سے ان کے عناد میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ شرک ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے۔ لیکن اگر ہم اولیاء کی زیارت کریں اور اپنی دعائوں میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں۔ کہ اپنے فلاں ولی کے طفیل ہمیں شفا عطا فرمایا ہماری فلاں مصیبت دور کر دے۔ تو بھلا اس میں گناہ کی کونسی بات ہے۔؟ میں نے کہا ہمارا دین واسطے کا دین نہیں ہے تو وہ کہنے لگے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔۔۔۔۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسے لوگوں کے علاج کے لئے آپ کو ناسا حل بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس بدعت کا کس طرح مقابلہ کروں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کتاب و سنت کے دلائل سے یہ معلوم ہو چکا ہے۔ کہ غیر اللہ خواہ اولیاء ہوں یا جن بت ہوں یا دیگر مخلوقات ان کے لئے ذبح کر کے تقرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور جاہلیت و مشرکین کے اعمال میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۶۲ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ... سورة الانعام

” (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، سب خالص اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمان بردار ہوں۔“

”نیک“ کا معنی ذبح کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا بھی اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ جس طرح غیر اللہ کے لئے نماز پڑھنا شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

بِنَاءِ عَيْتِكَ الْكَوْثَرِ ۝ فَضِّلْ لِيْكَ وَالْحَمْدُ ... سورة الكوثر

” (اے محمد! ﷺ) ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔“

اس سورہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رب کے لئے نماز پڑھیں اور اسی کے لئے قربانی کریں کریں جب کہ اس کے برعکس اہل شرک غیر اللہ کو سجدہ کرتے اور غیر اللہ کے نام ذبح کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهُ ۚ ۲۳ ... سورة الاسراء

”اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

اور فرمایا :

وَأْمُرُوا آلَاءَ بَعْدِ وَاللَّهِ يُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ خُفِيَ ۚ ۵ ... سورة المائدة

”اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر۔۔۔“

اس مضموم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ ذبح کرنا عبادت ہے لہذا واجب ہے کہ یہ عبادت بھی صرف اللہ وحدہ کے لئے اخلاص کے ساتھ سرانجام دی جائے۔ صحیح مسلم میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ : ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لئے ذبح کرے۔“

قابل کا جو یہ قول ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سخت اولیاء یا بجاہولیا یا بحق نبی یا بجاہ نبی سوال کرتا ہوں تو یہ اگرچہ شرک نہیں لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک یہ بدعت اور وسائل شرک میں سے ضرور ہے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کی کیفیت توقیفی امور میں سے ہے اور یہ ہمارے نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں جو مخلوق میں سے کسی ایک کے حق یا جاہ کے ساتھ وسیلہ کے جواز پر دلالت کناں ہوں۔ لہذا مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ وسیلہ کی کوئی ایسی صورت اختیار کرے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے :

أَمْ قَوْمٌ تُشْرِكُوا ۚ شَرُّ عَاقِمٍ مِنَ الذَّمِّ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ۚ ۲۱ ... سورة شوری

”کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔“

اور محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

من احدث فی امرنا ہذا لیس منہ فحورود

(صحیح بخاری کتاب الصلح باب اذا صلحوا علی صلح جور فالصلح مردود: 2697) صحیح مسلم کتاب الاقضیہ باب نقض الاحکام الباطلہ۔۔۔ ح: 1718)

”جس نے ہمارے اس امر (دین) میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے“

اس کی صحت متفق علیہ ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جسے امام بخاری نے صحیح میں تعلیقا مگر صیغہ جزم کے ساتھ روایت کیا ہے کہ

من عمل علایس علیہ امرنا فحورود

(صحیح مسلم کتاب الاقضیہ باب نقض الاحکام الباطلہ۔۔۔ ح: 1718۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب رقم: 20)

